



PRESS RELEASE

June 28, 2013

Corporate governance rules for NGOs discussed

Karachi, June 28: The Securities and Exchange Commission of Pakistan Executive Director Nazir Ahmed Shaheen has expressed the desire to develop a regulatory regime that will support corporate NGOs in enhancing their credibility and public trust and ensure transparency, accountability and good governance.

He was speaking at a roundtable conference on the draft Licensing and Corporate Governance Regulations for Associations Not-for-Profit. The conference was organised by the SECP in collaboration with the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP).

The Commission issued draft Associations Not-for-Profit (Licencing and Corporate Governance) Regulations, 2013 on April 9, 2013 to elicit public opinion and the conference was part of the in-depth interaction of the SECP with the stakeholders. Held at ICAP house Karachi, the round table drew a good turnout, including representatives of corporate NGOs, accountants, lawyers and consultants.

Mr Ahmad Saeed President, Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP), thanked all participants for their interest and feedback. He reiterated the ICAP's commitment to continue its valuable contribution as already extended from time to time in the development of better corporate regulatory environment in the country.

The next roundtable conference will be held in Islamabad.

Tickers:

1. Corporate governance rules for NGOs discussed: SECP
2. Regulatory regime will enhance transparency, accountability and good governance.
Nazir Ahmad Shaheen, the SECP Executive Director

پریس ریلیز

۲۸ جون ۲۰۱۳

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا این جی اوز کی ریگولیشن کو بہتر کرنے کیلئے قانون سازی پر غور

کراچی (۲۸ جون) سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان غیر منافع بخش اداروں کے لیے ضوابط تشکیل دے رہا ہے تاکہ این جی اوز کی استعداد کار کو بڑھایا جاسکے اور ان کے مالی معاملات میں شفافیت لائی جائے۔ کارپوریٹ سیکٹر کی بامقصد مشاورت سے ایس ای سی پی بہت جلد این جی اوز کیلئے قانون سازی مکمل کر لے گا۔ ان خیالات کا اظہار ایس ای سی پی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نزیر احمد شاہین نے این جی اوز کی ریگولیشن کو بہتر کرنے کیلئے ماہرین، این جی او کے نمائندوں اور ایس ای سی پی کے مشاورتی اجلاس میں کیا۔

ایس ای سی پی اور انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان کے زیر اہتمام کراچی میں ہونے والے مشاورتی اجلاس میں ماہرین اور این جی او کے نمائندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اور ناٹ فار پرافٹ ریگولیشن ۲۰۱۳ کے لیے ہونی والی مشاورت میں حصہ لیا۔

شرکاء نے ایس ای سی پی کا شکریہ ادا کیا اور اسکی انضباطی کارکردگی کو سراہا۔ مشاورتی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان کے صدر نے معیشت کے بہتر انضباط کیلئے ایس ای سی پی کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔

ٹکرز:

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا این جی اوز کی ریگولیشن کو بہتر کرنے کیلئے قانون سازی پر غور
این جی اوز کی استعداد کار کو بڑھانے اور ان کے معاملات میں شفافیت لانے کیلئے قانون سازی کی جائے گی۔
کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ بامقصد مشاورت سے ایس ای سی پی این جی اوز کیلئے جلد قانون سازی مکمل کر لے گا۔